



مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے جب کے ایسا مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے

صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول ﷺ فرمایا: "مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے جب کے ایسا مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے اگر اسے آسودہ حالی ملتی ہے اور اس پر وہ شکر کرتا ہے، تو یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی تنگی لاحق ہوتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے باعث خیر ہے"

[صحیح] [اسے مسلم نے روایت کیا ہے]

اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم مومن کے احوال پر بطور استحسان تعجب فرما رہے ہیں کیوں کے اس کے سارے احوال خیر کے حامل ہیں جب کے یہ شرف مومن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے اگر اسے خوشیاں ملتی ہیں اور وہ اللہ کا شکر بجا لانا ہے، تو اسے شکر کی وجہ سے اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے جب کے اگر اسے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو اسے صبر کی بنا پر اجر و ثواب ملتا ہے اس طرح اس کا دامن ہر حال میں اجر و ثواب سے بھرا رہتا ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3298>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

